

Secondary Arabic (235)

یونٹ: 1 سبق نمبر 2: حروف شمسی اور حروف قمری

سبق کا نام	زبان کی مہارتیں				سبق کا نام	سبق نمبر
حروف شمسی اور حروف قمری	اصناف/قواعد/صنائع بدائع/اسلوب	لکھنا	پڑھنا	سننا/بولنا	2	
صحیح تلفظ	شمسی اور قمری حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پر ”ال“ لگانے اور ان کو پڑھنے کے قاعدے	ان حروف سے متعلق سوالات کے جوابات	ان حروف سے شروع ہونے والے الفاظ کو پڑھنا	عربی حروف کی تقسیم اور ان کا تلفظ		

سبق کا خلاصہ:

عربی حروف یا حروف تہجی کی تقسیم دو قسموں کی کی گئی ہے۔ ان کی پہلی وہ قسم ہے جب ہم ”ال“ کے ساتھ حروف کو ملاتے ہیں تو بعض حروف الف سے مل جاتے ہیں اور ”لام“ کی آواز نہیں آتی، انہیں حروف شمسی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد چودہ (14) ہے:

ت، ث، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن، ان حروف کو شمسی اس لیے کہتے ہیں کہ جب لفظ ”الشمس“ کے پڑھنے میں ”لام“ اگر چہ لکھا جاتا ہے لیکن تلفظ میں نہیں آتا ہے۔

حروف تہجی کی دوسری قسم کو حروف قمری کہا جاتا ہے یہ وہ حروف جن کے پہلے ”ال“ لگایا جاتا ہے تو ”لام“ ساکن کے ساتھ ”الف“ پر زیر آتا ہے۔ ایسے حروف کو حروف قمری کہتے ہیں کیوں کہ ”القمر“ کے پڑھنے میں ”لام“ آتا ہے۔ ان کی بھی تعداد چودہ (14) ہے:

الف، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ک، م، و، ہ، ی۔

خاص باتیں:

- شمسی اور قمری حروف کا یہ قاعدہ صرف ان عربی الفاظ کے لیے ہیں جو ان حروف سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے: الباب، القلم، الورق، الهواء۔
- شمسی حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پر جب ”ال“ داخل کرتے ہیں تو اس صورت میں ”ال“ کا ”لام“ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا اور شمسی حروف پر تشدید لگاتے ہیں۔ جیسے: الثمر، الثواب، الدرس۔

سمجھنے کی باتیں:

- شمسی حروف کی تعداد چودہ (14) ہے۔
- قمری حروف کی تعداد چودہ (14) ہے۔

غور کرنے کی باتیں:

- شمسی حروف سے پہلے اگر ”ال“ ملایا جائے تو اس کے اوپر تشددی اور زبر دونوں لگایا جاتا ہے۔
- قمری حروف سے پہلے اگر ”ال“ لگایا جائے تو اس کے اوپر صرف زبر لگتا ہے۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:

- متن پر مبنی سوال:
- صحیح جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:
- 1- شمسی حروف کی تعداد کتنی ہے؟
 - (الف) 12
 - (ب) 13
 - (ج) 14
 - (د) 15
- 2- مختصر ترین جواب والا سوال:
 - عربی حروف کی دونوں قسمیں کیا ہیں؟
- 3- مختصر جواب والا سوال:
 - ان الفاظ پر ”ال“ لگائیں اور ”ال“ کے بعد آنے والے حرف پر اعراب لگائیں:
النوم، الصوم، المدرس، اليد، العين، الخادم
- 4- طویل جواب والا سوال:
 - شمسی اور قمری حروف سے شروع ہونے والے دس دس الفاظ لکھیں اور ان پر ”ال“ لگائیں۔